پاکستان مرکزی مُسلم لیگ

ترقی،خوشحالی اورامن واستحکام

انتخابی نشان کرسی

ہمارا عزم عالیشان
اسلامی فلاحی پاکستان

ممبرشپ فارم

فارم نمبر

تاریخ

نام

والد/خاوند کا نام

مذہب

شناختی کارڈ نمبر _____ – _______ – _

عمر

پتہ

UC/NC/VC

وارڈ نمبر

بلاک کوڈ

صوبائی/قومی اسمبلی حلقہ

ضلع

تعلیم

بلڈ گروپ

پیشہ

فون نمبر

میں حلفاً اقرار کرتا/کرتی ہوں کہ میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے دستور کی پاسداری کرتے ہوئے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا/گی۔

دستخط

دفتری استعمال

دستخط مجاز اتھارٹی

ممبرشپ نمبر

PMMLMedia

0300-0194701

042-37459937
0322-9890779

ہیڈ آفس:
E-30/1-A سول سروسز اکیڈمی روڈ والٹن کینٹ لاہور

www.markazi.pk